

١٢ - فوائد السفر و الرحلات

ابن داشیہ :

کہاوت مشہور ہے کہ سفر و سیلہ ظفر ہے۔ سفر تجربات سیکھنے سکھانے کا نام ہے۔ سفر کے مقاصد علیحدہ ہوتے ہیں۔ انسان، چندو پرند غرض ہر کوئی اس دنیا میں سفر کرتا ہے۔ اسی لیے ماہرین نے پرندوں اور مچھلیوں کی خصوصیات کی معلومات کو یکجا کیا ہے۔ عرب اور ہندوستان میں نامور سیاح اور ہم جو پیدا ہوئے ہیں۔ مثلاً ابن بطوطة، الیبرونی وغیرہ۔ موجودہ دور میں سفر کے جدید وسائل و ذرائع پیدا ہو چکے ہیں جن کے ذریعے انسان مختصر وقت میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک بآسانی پہنچ جاتا ہے۔ اس سبق میں سفر کی اہمیت اور اس کے فائدے بیان کیے گئے ہیں۔

قال الإمام الشافعي :

وَسَافِرْ فِي الْأَسْفَارِ خَمْسُ فَوَائِدٍ
وَ عِلْمٌ وَ آدَابٌ وَ صُحْبَةٌ مَاجِدٌ

تَغَرَّبُ عَنِ الْأُوْطَانِ فِي طَلَبِ الْعِلَا
تَفْرِجُ هِمٌ وَ اكْتِسَابُ مَعِيشَةٍ
وَقَالَ أَيْضًا :

مِنْ رَاحَةِ فَدَعَ الْأُوْطَانَ وَ اغْتَرَبَ
وَ انْصَبَ فَإِنَّ لَذِيْدَ الْعِيْشِ فِي النَّصَبِ
إِنْ سَالَ طَابَ وَ إِنْ لَمْ يَجِرِ لَمْ يَطِ
الرِّحْلَةُ هِيَ مُغَادِرَةُ مَكَانِ الإِقَامَةِ أَوِ الْعَمَلِ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ وَ تَهْدِفُ إِلَى تَجْدِيدِ النَّشَاطِ وَ التَّرْوِيْحِ
عَنِ النَّفْسِ، مِمَّا يَكُونُ قَدْ أَصَابَهَا مِنْ مَلَلٍ، وَ عَنِاءٍ فِي الْعَمَلِ. تَخْتِلُفُ الرِّحْلَاتُ فِي أَنْوَاعِهَا وَ أَهْدَافِهَا :
فَمِنْهَا الرِّحْلَاتُ الْطَّلَائِيَّةُ، وَ الرِّحْلَاتُ الْأُسْرِيَّةُ، وَ رِحْلَاتُ الْعَامِلِيْنَ وَ الرِّحْلَاتُ التِّجَارِيَّةُ.

وَ لَيْسَتِ الْهِجْرَةُ خَاصَّةً مَعَ الْإِنْسَانِ بِلِ الْطَّيُورُ أَيْضًا تُسَافِرُ وَ تُهَاجِرُ، وَ تَسْرُكُ أَعْشَاشَهَا لِتَبْنِيَ
أَعْشَاشًا أُخْرَى فِي بِلَادِ نَائِيَّةٍ، ثُمَّ تَعُودُ تَارَةً أُخْرَى إِلَى أَوْطَانِهَا . وَ الْأَسْمَاكُ أَيْضًا فِي الْبِحَارِ وَ
الْمُحِيطَاتِ تُهَاجِرُ. وَ قَدْ رَاقَبَ الْعُلَمَاءُ هِجْرَةَ الطَّيُورِ وَ الْأَسْمَاكِ وَ عَرَفُوا أَوَانَهَا وَ سَجَلُوا مَوَاعِيْدَهَا.
وَ فِي الْعَرَبِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ رَحَالَةُ قَدَمَاءٍ جَابُوا الْبِلَادَ وَ عَاشُرُوا أَهْلَهَا، وَ جَمَعُوا أَخْبَارَهُمْ وَ دَوْنُوا
أَحْوَالَهُمْ فِي رِحْلَاتِهِمْ. مِثْلُ ابْنِ بَطْوَطَةَ وَ الْبَيْرُونِيِّ. وَ كَانَ مِنَ الْأُوْرُوبِيِّيْنَ رَحَالَةُ آخْرُونَ إِرْتَحَلُوا
لَا كِتْشَافِ بِلَادِ جَدِيْدَةٍ وَ لِلْإِسْتِعْمَارِ وَ التِّجَارَةِ مُنْدُ قُرُونٍ. سَافَرَ إِلَى الْهِنْدِ وَ اسْتَوْطَنَهَا أَلْفُ مِنَ الْفَضَلَاءِ

وَ التُّجَارٌ مِنَ الْعَرَبِ وَ الْعَجمِ.

لَقِدْ اهْتَمَ الْإِنْسَانُ بِالرِّحَلَاتِ فِي هَذَا الْعَصْرِ، وَ ذَلِكَ بِفَضْلِ تَطْوِيرِ وَسَائِلِ الْمُوَاصَلَاتِ. قَدْ سَاعَدَتِ الرِّحَلَاتُ عَلَى اِكْتِشَافِ مَنَاطِقَ عَدِيدَةٍ فِي الْعَالَمِ مِثْلُ أَمْرِيْكَا وَ الْقُطْبِ الْجُنُوبِيِّ وَ الْقُطْبِ الشِّمَالِيِّ وَغَيْرِهَا.

* * * * * الْكَلِمَاتُ وَ الْمَعَانِي - الفَاظُ وَ الْمَعَانِي - Glossary

Benefits	فائدة	فَوَائِدُ وَ فَائِدَةٌ
Travel, journey	سفر	رِحَلَةٌ وَ رِحْلَةٌ
Leave place, travel	وطن سے نکلنا، نقل مکانی کرنا	تَغَرَّبَ يَتَغَرَّبُ تَغَرُّبًا
Homeland, country	مادرطن، ملک	أَوْطَانٌ وَ وَطَنٌ
Demand, seek	چاہنا، طلب کرنا	طَلَبَ يَطْلُبُ طَلَبًا
Highness	بلندی	عُلَا
Travel	سفر کرنا	سَافَرَ يُسَافِرُ مُسَافَرَةً
Be relieve	راحٰت پانا	تَفَرَّجَ يَتَفَرَّجُ تَفَرُّجًا
Worry, trouble	غم، دکھ	هَمٌ ج: هُمُومٌ
Gain, acquire, achieve	حاصل کرنا، پانا	إِكْتَسَبَ يَكْتَسِبُ إِكْتِسَابًا
Sustenance, livelihood, economy	روزگار	مَعِيشَةٌ
Ethics, manners	آداب	أَدَابٌ وَ أَدْبٌ
Companionship, company	ساتھ، معاشر	صُحْبَةٌ
Glorious	بلند، بزرگ	مَاجِدٌ ج: مَاجَادٌ
Place	جگہ، وطن، اقامت	مَقْامٌ
Owner of, possessor of	والا، صاحب	ذُو / ذِي
Comfort, ease, relief	راحٰت، آسانی	رَاحَةٌ
Leave (imperative)	چھوڑ دے (صيغة امر)	دَعْ
To leave	چھوڑ دینا	وَدَعَ يَدَعُ وَدْعًا وَ وَدَاعًا
Migrate, emigrate	ہجرت کرنا، نقل مکانی کرنا	إِغْتَرَبَ يَغْتَرِبُ إِغْتِرَابًا

Instead of, against, in exchange	بدلے (میں)	عِوَضٌ ج: أَعْوَاضٌ
Leave, quit	چھوڑنا، دور ہونا	فَارَقَ يُفَارِقُ مُفَارَقَةً
Work hard	محنت کرنا، تھک جانا	نَصِبَ يَنْصَبُ نَصَبًا
Life, living	زندگی	عَيْشٌ
Stop, halt	رُکنا، ٹھہرنا، کھڑے ہونا	وَقَفَ يَقِفُّ وُقُوفًا
Flow	بہنا	سَالَ يَسِيلُ سَيْلًا
Be pleasant, make good	اچھا ہونا	طَابَ يَطِيبُ طِيَابًا
Flow	بہنا، جاری ہونا	جَرَى يَجْرِي جَرْيًا وَ جَرِيَانًا
Depart, leave	ٹکنا، چھوڑ دینا	غَادَرَ يُغَادِرُ مُغَاذَرَةً
Aim at, target	مقصد بنانا	هَدَفَ يَهْدِفُ هَدْفًا
Innovate, renew	از سرنو کرنا، نیا بنانا	جَدَّدَ يُجَدِّدُ تَجْدِيدًا
Activeness, energy	چستی	نَشَاطٌ ج: نَشَاطَاتٌ
Refresh, entertain	تازہ دم کرنا، لطف اندوز کرنا	رَوَحَ يُرَوِّحُ تَرْوِيهًـا
Affect by, attacked by	(مصیبت کا) پہنچنا، پہنچا ہونا	أَصَابَ يُصِيبُ إِصَابَةً
Tiredness, boredom, weariness	تکان، بوجھل پن	مَلَلٌ
Pain, trouble, hardwork	دکھ، تکلیف، مشقت	عَنَاءً
Targets, goals	متناشد	أَهْدَافٌ و: هَدَفٌ
Study tour, expedition	تعلیمی سفر	رِحَلَاتٌ طَلَابِيَّةً
Personal, related to family	گھریلو، خاندانی	أُسْرِيَّةً
Workers	کام کرنے والے	عَامِلُونَ و: عَامِلٌ
Leave	چھوڑنا	تَرَكَ يَتْرُكُ تَرْكًا
Nests	گھونسلے	أَغْشَاشٌ و: عُشٌّ
Far away	دور	نَائِيَةً
Sometimes, once	کبھی، ایک مرتبہ	تَارَةً
Fish	محچلیاں	أَسْمَاكٌ ج: سَمَكٌ

Oceans	بُحْرٌ عَظِيمٌ (جمع)	مُحِيطٌ و: مُحِيطٌ
Observe	أَكَاتِرْ دِيْكَهْنَا، مِشَاهِدَهْ كَرْنَا	رَاقِبٌ يُراقبُ مُراقبَةً
Scientists	سَائِنَسْ دَاهْ (جمع)	الْعُلَمَاءُ و: الْعَالِمُ
Time, season	وقت، موسم	أَوَانٌ
Note down, make record	اندراج كرنا	سَجَّلَ يُسَجِّلُ تَسْجِيْلًا
Timetable, appointment	مُقْرَرٌهَاوَقَاتٌ	مَوْاعِيدٌ و: مَوْعِدٌ
Traveller, tourist	سِيَاحٌ	رَحَّالٌ
Ancient, old (plural)	پَرَانِي	قُدَمَاءُ و: قَدِيمٌ
Travel, tour	گُھُونَنَا، سَفَرٌ كَرْنَا	جَابَ يَجُوبُ جَوْبًا
Associate with, mix with	گَھَلَ مَلْ جَانَا، وَابْسَتَهُونَا	عَاشَرَ يُعاشِرُ مُعَاشَرَةً
Collect, gather	جَمَعٌ كَرْنَا	جَمَعَ يَجْمَعُ جَمْعًا
Newses	خَبَرِيں	أَخْبَارٌ و: خَبْرٌ
Record	رِيْكَارْڈَ كَرْنَا	دَوْنَ يُدَوِّنُ تَدْوِيْنًا
Conditions, situations	حَالَتِينِ	أَحْوَالٌ و: حَالٌ
Europeans	يُورُوپِيٌّ (جمع)	أُورُوپِيُّونَ
Depart, move away, set out	سَفَرٌ كَرْنَا، نَكْنَا	إِرْتَحَلَ يَرْتَحِلُ إِرْتَحَالًا
Discover, find out	كَھُونَ كَرْنَا	إِكْتَشَفَ يَكْتَشِفُ إِكْتَشَافًا
Colonizing, imperialism	سَامِرَاجِيتٌ، نُواآبادِکارِي	إِسْتَعْمَارٌ
Since, from	سے	مُنْذُ
Centuries	صَدِيَالٌ	قُرُونٌ و: قَرْنٌ
Excellent, knowledgeable (pl.)	زِيَادَهْ عِلْمٌ وَالِي	فُضَلَاءُ و: فَاضِلٌ
Traders	تَجَارَتْ كَرْنَهْ وَالِي	تُجَارٌ و: تَاجِرٌ
Time, period	وقت، زمانه	عَصْرٌ ج: عَصْرُورٌ
Favour, grace	فَضْلٌ، كَرْمٌ	فَضْلٌ
Develop, progress	ترقِيَ كَرْنَا، بَهْتَرٌهُونَا	تَطَوُّرٌ يَتَطَوَّرُ تَطَوُّرًا
Means	ذِرَاعَهْ	وَسَائِلٌ و: وَسِيلَةٌ

Transportation, communication	نقل وحمل، مواصلات	مُواصَلَاتٌ
Help, support	مدْكُرنا	سَاعِدَ يُسَاعِدُ مُسَاعِدَةً
Zones, belts	عَلَاقَة	مَنَاطِقٌ وَمِنْطَقَةً

الْتَّمْرِينُ - مشق - Exercise

Complete the following couplets.


١. أَكْمِلِ الْأَيَّاتِ التَّالِيَّةَ. درج ذيل اشعار مكمل كتجهيز.

..... ما في المقام لِذِي عَقْلٍ وَ ذِي أَدَبٍ
وَ انصَبْ فِي لَدِيَّهُ الْعَيْشُ فِي النَّصِبِ

٢. أَكْمِلِ الْأَيَّاتِ التَّالِيَّةَ. درج ذيل اشعار مكمل كتجهيز.

Complete the following web.

٢. أَكْمِلِ الشَّبَكَةَ التَّالِيَّةَ. درج ذيل شبکی خاکہ مكمل كتجهيز.



Complete the following activities.

٣. كَمِلِ الْأَعْمَالَ التَّالِيَّةَ. درج ذيل سرگرمیاں مكمل كتجهيز.

١. أَكْتُبْ خَمْسَ فَوَائِدِ السَّفَرِ.

٢. أَكْتُبْ كَيْفِيَّةَ الْمَاءِ.

٣. أَكْتُبْ مَعْنَى الرِّحْلَةِ.

٤. أَكْتُبْ أَفْعَالَ الْعُلَمَاءِ.

٥. أَكْتُبْ خَمْسَ وَسَائِلِ الرِّحْلَةِ.

٦. أَكْتُبِ الْجَمْعَ لِلْمُفَرَّدَاتِ التَّالِيَّةِ. درج ذيل واحد الفاظ کی جمع لکھیے۔

Write plurals of the following words.

١. رِحْلَةٌ

٢. طَيِّرٌ

٣. عَشْشٌ

٤. سَمَكٌ

٥. مُحِيطٌ

٦. مِنْطَقَةٌ

٧. حَوَّلِ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ إِلَى فِعْلِ النَّهْيِ. درج ذيل فعل مضارع سے فعل نہی بنایے۔

Change the following present tense into prohibitive verbs.

١. تُسَافِرُونَ

٢. تَهَاجِرُونَ

٣. تَعْرِفَانِ

٤. تُسَسِّجُلنَ

٥. تَطْلُبُ

٦. تَجْمَعُ

الوقت

عام طور پر وقت کے لیے عربی میں لفظ 'وقت'، (ج: أَوْقَاتٌ) ہی استعمال ہوتا ہے۔ جبکہ 'زَمْنٌ' یا 'زَمَانٌ'، (ج: أَزْمَنَةً)، اور عَصْرٌ (ج: عَصْرُونَ) کے معنی زمانہ لیتے ہیں مثلاً 'الْعَصْرُ الْوُسْطَى'، یعنی عہد وسطی۔ عَصْرٌ سے عصر کا وقت بھی مراد لیتے ہیں۔ عربی میں وقت کے دورانیے کے لیے چند الفاظ اس طرح ہیں:

سَنَةٌ يَأْعَامٌ (ج: سَنَوَاتٌ، أَعْوَامٌ) سال،	شَهْرٌ (ج: شُهُورٌ) مہینہ،	قَرْنٌ (ج: قُرُونٌ) صدی،
سَاعَةٌ (ج: سَاعَاتٌ) گھنٹہ،	يَوْمٌ (ج: أَيَّامٌ) دن،	أَسْبُوعٌ (ج: أَسَابِيعٌ) ہفتہ،
ثَانِيَةٌ (ج: ثَوَانٍ) سیکنڈ۔	لَحْظَةٌ (ج: لَحْظَاتٌ) لمحہ،	دِقِيقَةٌ (ج: دَقَائِقٌ) منٹ،
	سَاعَةٌ گھنٹی کے لیے اور وقت پوچھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً	
	كَمِ السَّاعَةُ؟ (کتنے بجے ہیں؟) السَّاعَةُ الثَّالِثَةُ. (تین بجے ہیں)	
	نَهَارٌ کے معنی دن کا کوئی وقت جبکہ يَوْمٌ پورے دن یعنی ۲۴ رگھنٹے کہتے ہیں۔ جب پوری رات کا ذکر ہو تو ہم 'لَيْلَةٌ' کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر لَيْلَةُ أَمْسٍ (گزر شہرات)۔	
	دان کے مختلف حصے: الصَّبَاحُ ، الْمَسَاءُ ، الْنَّهَارُ ، الْلَّيْلُ (بالترتیب معنی: صبح، شام، دن کا وقت، رات کا وقت)۔	
	پندرہ روزہ کے لیے الْنِصْفُ الشَّهْرِيُّ اور ششماہی کے لیے الْنِصْفُ السَّنَوِيُّ۔	

TIME

In Arabic, the word 'وقت' (أَوْقَاتٌ) is used for time in general sense. Other words are also used such as 'الْعَصْرُ الْوُسْطَى' (عَصْرٌ; أَزْمَنَةً or زَمَانٌ) meaning "an age" or "era" (e.g. the Middle Ages). The word 'عَصْرٌ' is also used for before evening.

In Arabic, the duration of time is expressed as follows.

(شُهُورٌ) (pl. شَهْرٌ) for month; (قُرُونٌ) (pl. قَرْنٌ) for century"; (أَعْوَامٌ، سَنَوَاتٌ) (pl. سَنَةٌ) for year; (أَيَّامٌ) (pl. يَوْمٌ) for day; (سَاعَاتٌ) (pl. سَاعَةٌ) for hour; (دِقِيقَةٌ) (pl. دَقَائِقٌ) minute; (ثَوَانٍ) (pl. ثَانِيَةٌ) moment and (لَحْظَاتٌ) (pl. لَحْظَةٌ) for second.

سَاعَةٌ also means a watch or clock and is used in telling the time. For Example:

كَمِ السَّاعَةُ؟ (What time is it?)

السَّاعَةُ الْثَّالِثَةُ. (It is 3 o'clock.)

نَهَارٌ means the daytime, whereas يَوْمٌ means the whole 24 hours. When a single night is specified, we say لَيْلَةٌ أَمْسٍ (last night), e.g. لَيْلَةُ لَيْلَةٍ (night).

Different parts of day : الصَّبَاحُ (morning), الْمَسَاءُ (evening), الْنَّهَارُ (daytime), الْلَّيْلُ (night).

النِّصْفُ السَّنَوِيُّ and for biyearly النِّصْفُ الشَّهْرِيُّ .

کسر

عدد کے کسور (کھٹکے، حصے) میں سے آدھے کے لیے فقط 'نصف'، استعمال ہوتا ہے اور باقی کسور کو اسم عدد سے فعل یا فعل کے وزن پر بنایا جاتا ہے۔

أُرُدُو	عَرَبِيٌّ	أُرُدُو	عَرَبِيٌّ		
$\frac{1}{7}$	ساتواں حصہ	سُبْعٌ	$\frac{1}{2}$	آدھا	نِصْفٌ
$\frac{1}{8}$	آٹھواں حصہ	ثُمُنْ	$\frac{1}{3}$	ایک تہائی	ثُلُثٌ
$\frac{1}{9}$	نوال حصہ	تُسْعٌ	$\frac{1}{4}$	ایک چھوٹائی	رُبْعٌ
$\frac{1}{10}$	دوال حصہ	عُشْرٌ	$\frac{1}{5}$	پانچواں حصہ	خُمُسٌ
			$\frac{1}{6}$	چھٹا حصہ	سُدُسٌ

Fractions

In Arabic fractions, for half 'نصف' is used and for other fractions, names of the numbers are used on the scale of 'فعل' or 'فعل'.

Arabic	English	Arabic	English	
نِصْفٌ	half	$\frac{1}{2}$	One seventh	$\frac{1}{7}$
ثُلُثٌ	One third	$\frac{1}{3}$	One eighth	$\frac{1}{8}$
رُبْعٌ	One fourth	$\frac{1}{4}$	One ninth	$\frac{1}{9}$
خُمُسٌ	One fifth	$\frac{1}{5}$	One tenth	$\frac{1}{10}$
سُدُسٌ	One sixth	$\frac{1}{6}$		

% (per cent) = بِالْمِائَةِ ، فِي الْمِائَةِ Percentage = مِئَوَى

e.g. : 20% = عِشْرُونَ فِي الْمِائَةِ

الدِّرَاسَةُ الْإِضَافِيَّةُ - اضافی مطالعہ - Additional Information

حضرت امام شافعی (وفات: ۴۰۲ھ)

نام محمد بن ادریس الشافعی، کنیت ابو عبد اللہ۔ امام شافعی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کی پیدائش ۱۵۰ھ مطابق ۷۸ء میں غزہ (فلسطین) میں ہوئی۔ بچپن میں ہی والد کا انتقال ہو گیا۔ سات سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ کم عمری ہی میں عربی ادب سے شغف پیدا ہوا۔ انھیں شعر و ادب اور لغت کا خاصاً ذوق تھا۔ انھوں نے فقہ و حدیث کی تعلیم مکتبۃ المکرّمہ میں حاصل کی۔ ایک مدت تک یمن میں شعر و لغت اور علم نحو حاصل کیا۔ پھر وہ مدینہ چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر بیس سال تھی۔ وہاں انھوں نے امام مالکؓ سے علم حاصل کیا اور مؤٹا امام مالک کو زبانی یاد کر لیا۔ حضرت امام محمد بن حسن شیعیانی سے بھی حدیث و فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ آپ مجتهد تھے اور فقہ شافعی آپ ہی سے منسوب ہے۔ علوم اسلامیہ کا یہ سورج ۲۹ رجب ۵۷۳ھ کو رسال کی عمر میں مصر کے شہر فسطاط میں غروب ہوا۔